

107472 - فوت شدہ شوہر کے بچوں کی پرورش اور بیوہ کی شادی میں رغبت کرنا

سوال

میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، اب میرے بچے کس کے ساتھ رہینگے میرے ساتھ یا کہ میرے سسرال والوں کے ساتھ ؟

اور اگر میں اپنے ملک جانا چاہوں تو کیا میں اپنے بچوں کو ساتھ لے جاؤں یا کہ سسرال والوں کے پاس چھوڑ جاؤں ؟

کیا میرے سسرال والوں کو میرے بچوں کی پرورش اور تربیت کا حق حاصل ہے ؟
اگر بیوہ آگے شادی کرنا چاہے تو کیا اسے اپنے خاوند کی یتیم اولاد کی پرورش کرنے کا حق حاصل ہو گا ؟

پسنیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

چھوٹے بچوں کی پرورش کا معنی یہ ہے کہ انکی حفاظت اور دیکھ بھال کی جائے اور ان کی مصلحت کا خیال رکھا جائے، اور انہیں ضرر دینے اور تکلیف دینے والی اشیاء سے بچایا جائے۔

علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ اگر خاوند فوت ہو جائے یا پھر طلاق ہو جائے تو شعور اور تمیز کی عمر کو پہنچنے تک بچوں کی پرورش کا سب سے زیادہ حق ماں کو ہے۔

الموسوعة الفقهية میں درج ہے:

" اگر خاوند اور بیوی کا نکاح قائم ہے تو بچوں کی پرورش دونوں مل کر کرینگے، اور اگر ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو پھر سب کا اتفاق ہے کہ بچے کی ماں کو پرورش کا حق حاصل ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ:

" ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کے لیے میرا پیٹ اس کے لیے رہنے کی جگہ تھی، اور میری چھاتی اس کی خوراک کا باعث تھی، اور میری گود اس کی حفاظت کی جگہ تھی، اور اس کے باپ نے مجھے

طلاق دے دی ہے، اور اب اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے ؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا:

" تم جب تک نکاح نہیں کرتی اس کی زیادہ حقدار ہو " انتہی

دیکھیں: الموسوعة الفقهية (17 / 301 - 302).

پرورش میں بچے کی مصلحت کو مدنظر رکھا جائیگا، کیونکہ ہو سکتا ہے پرورش کا حقدار شخص فاسق ہو یا پھر بچے کی تربیت اور اس کی مصلحت پوری نہ کر سکتا ہو، یا پھر وہ کوتاہی کرنے والا اور بچہ کو ضائع کر دینے والا ہو، تو یہاں اس صورت میں پرورش کا حق اس کے بعد والے کو منتقل ہو جائیگا.

ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اور حدیث - یعنی " جب تک تم نکاح نہ کرو تو تم اس (بچے) کی زیادہ حقدار ہو " اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب ماں اور باپ میں علیحدگی اور جدائی ہو جائے اور ان کی اولاد ہو تو باپ کی بجائے ماں اس کی زیادہ حقدار ہے، جب تک ماں میں کوئی ایسا مانع نہ پایا جائے جو اسے مقدم کرنے سے روکے، یا پھر بچے میں ایسا وصف پایا جاتا ہو جو اس کے لیے اختیار کا متقاضی ہو، اس مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں پایا جاتا "

دیکھیں: زاد المعاد (5 / 435).

اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" یہ علم میں رکھیں کہ ان مسائل میں ہر چیز سے قبل پرورش کیے جانے والے بچے کا خیال رکھا جائیگا، اگر وہ کسی ایک کے ساتھ جائے یا کسی ایک کے ساتھ باقی رہے اور اس پر اس کے دین یا دنیا کے معاملہ میں ضرر و نقصان ہوتا ہو تو اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیا جائیگا جو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اس کی مصلحت کو پورا اور اس کی اصلاح نہیں کرتا؛ کیونکہ پرورش کا اساسی مقصد اور غرض بچے کو ضرر اور تکلیف دہ اشیاء سے محفوظ رکھنا اور اس کی ضروریات و مصلحت پوری کرنا ہے "

دیکھیں: الشرح الممتع (13 / 545).

مزید آپ سوال نمبر (20473) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں.

اور جب ماں شادی کر لے تو علماء کرام کا اجماع ہے کہ اس کا حق پرورش ساقط ہو جاتا ہے.

اس کا تفصیلی بیان سوال نمبر (20705) کے جواب میں گزر چکا ہے آپ اس کا مطالعہ کریں۔

فقہاء کرام اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ ماں کے بعد حق پرورش کس کو منتقل ہو گا، چنانچہ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ حق پرورش نانی کو منتقل ہو جائیگا، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہما اللہ نے اس کی مخالفت کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ:

حق پرورش باپ کو منتقل ہو جائیگا، پھر جب وہ دونوں بچے کے قرب میں برابر ہیں تو باپ کی جانب مقدم ہو گی، اس لیے دادی کو نانی پر مقدم کیا جائیگا، اور خالہ پر پھوپھی مقدم ہو گی، اسی طرح باقی میں بھی۔

رحمہ اللہ کہتے ہیں:

.... چھوٹے بچے کے برخلاف کیونکہ اس لیے کہ اس کے لیے ماں زیادہ بہتر ہے؛ کیونکہ عورتیں چھوٹے بچوں پر زیادہ رحم دل ہوتی ہیں، اور اس کو خوراک دینے کا انہیں زیادہ علم ہوتا ہے اور اسے اٹھانے کی زیادہ خبر رکھتی ہیں اور اس پر انہیں صبر بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ زیادہ مہربانی ہوتی ہیں، لہذا ماں اس جگہ زیادہ قادر اور خبر رکھنے والی اور رحم کرنے والی اور زیادہ صبر کرنے والی ہو گی، اس لیے شریعت نے چھوٹے بچے کے حق میں جسے ابھی تمیز نہ ہو ماں کا خیال رکھا ہے۔

لیکن یہ باقی ہے کہ آیا انہیں شارع نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ پرورش میں ماں کا قرب باپ کے قرب پر مقدم ہے؟ یا کہ عورتیں مردوں سے پرورش کے مقصد کو زیادہ پورا کرنے والی ہوتی ہیں؟

اس میں علماء کے دو قول ہیں: ان دونوں کا معاملہ ماں کے رشتہ دار عصبہ کی عورتوں کی تقدیم سے ظاہر ہوتا ہے: مثلاً نانی اور دادی، ماں کی جانب سے بہن، اور باپ کی جانب سے بہن اور مثلاً پھوپھی اور خالہ وغیرہ، اس میں دو قول ہیں، امام احمد سے دو روایتیں ہیں، اور دلیل و حجت میں راجح قول یہ ہے کہ:

عصبہ کی عورتیں مقدم ہونگی، الخرقی نے بھی اپنی مختصر میں خالہ اور پھوپھی کے بارہ میں ذکر کیا ہے، اس بنا پر: دادی نانی پر مقدم ہو گی، اور باپ کی جانب سے بہن کو ماں کی جانب سے بہن پر مقدم کیا جائیگا، اور پھوپھی خالہ پر مقدم ہو گی جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اور باپ کی جانب سے مرد ماں کی جانب سے مردوں پر مقدم ہونگے، اور باپ کی جانب سے بھائی ماں کی جانب سے بھائی پر اور چچا ماموں سے اولیٰ ہے...

شارع نے احکام میں سے کسی بھی حکم میں ماں کے قرابت داروں کو مقدم نہیں کیا، لہذا جس نے انہیں پرورش میں مقدم کیا اس نے شریعت کے اصول کی مخالفت کی، لیکن ماں کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ وہ عورت ہے، اور جنس عورت پرورش میں مردوں پر مقدم ہیں۔

اس کا تقاضا ہے کہ دادی کو دادے پر مقدم کیا جائے جس طرح ماں کو باپ پر مقدم کیا ہے، اور اس کی بہنوں کو اس کے بھائی پر مقدم کیا جائیگا، اور اس کی پھوپھیوں کو چچاؤں پر مقدم اور اس کی خالہ کو ماموں پر مقدم کیا جائے، اور یہ قیاس اور اعتبار صحیح ہے۔

رہا ماں کی جانب سے جنس عورت کو باپ کی جانب سے عورتوں پر مقدم کرنا تو یہ اصول اور عقل کے بھی مخالف ہے۔

دیکھیں: مجموع الفتاوی (34 / 122 - 123) .

اور رہا آپ کا اپنے بچوں سمیت سفر کرنا تو اس کے متعلق سوال نمبر (21612) کے جواب میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر اس سفر میں ان پر کوئی ضرر و نقصان نہ ہو تو پرورش کا حق آپ کو ہے اور وہ سفر سے ساقط نہیں ہو گا۔

اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ:

1 - سسرال سے آپ اپنی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال اور تربیت کے زیادہ حقدار ہیں۔

2 - اگر آپ شادی کر لیں تو آپ کا حق پرورش ساقط ہو جائیگا، اور اولاد اپنی دادی کی طرف منتقل ہو جائیگی، اور اگر دادی نہ ہو تو پھر نانی کے پاس جائینگے۔

3 - اولاد کے ساتھ آپ کا سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ اس وقت ہے جب اس سفر میں ان پر کوئی ضرر نہ ہو۔

ہم آپ کو درج ذیل نصیحت کرتے ہیں:

اپنی اولاد کی اچھی تربیت اور دیکھ بھال کریں، اور اپنے سسرال والوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور ان سے قطع تعلق مت کریں، اور نہ ہی اپنی اولاد کو ان سے قطع تعلق کرنے دیں، اور پوری سنجیدگی کے ساتھ شادی کے متعلق سوچیں کیونکہ اس میں ہی آپ کی عفت و عصمت ہے، اور آپ کا اولاد سے تعلق منقطع نہیں ہو گا، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیک و صالح اولاد سے نوازے گا۔

واللہ اعلم .